

وَلَوْ اَنزَلْنَا لِنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ

اور اگر کبھی ہم واقعی ان پر فرشتوں کو نازل کر دیتے اور مردے اُن سے باتیں

الْمَوْتٰى وَحٰشْرُنَا عَلَيْهِمْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوْا يُوْمِنُوْا

کرتے اور ہر شے کو ہم اُنکے ساتھ محسوس کر لیتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے

اِلَّا اِنْ يَّشَآءُ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ جٰهِلُوْنَ ۝ وَكَذٰلِكَ

سوائے اسکے کہ اللہ ہی کو منظور ہوتا لیکن اکثر ان میں سے جاہل ہیں اور اسی طرح

جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شٰطِطِيْنَ اِلَّا نِيْسَ وَاجِبِيْنَ

ہم نے ہر نبی کے دشمن اس و جن سے قرار دئے

يُوْحٰى بَعْضُهُمْ اِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ عُرُوْرًا

جو بناوٹی باتیں دکھو کا دینے کے لئے ایک دوسرے کے کان میں بھونکتے ہیں

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ۝

اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے اب تم انکو اور جو افراتفران کر رہے ہو چھوڑو

وَلِيَتَّصِفَنَّ اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ

اور اسلئے کہ اُنکے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اُسکی طرف متوجہ ہو جائیں

وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ۝ اَفَغَيْرِ اللّٰهِ

اور اسلئے کہ وہ اس بات کو پسند بھی کر لیں اور اسلئے بھی کہ یہ (بھی) وہ کام کرنے لگیں جو کچھ انکو آہن کیا میں خدا کو

اٰتَبَعِيْ حِكْمًا وَهُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ الْكِتٰبَ

چھوڑ کر کسی دوسرے کو حکم بناؤں حالانکہ وہ وہی ہے جسے تمہاری طرف مفصل کتاب

مَفْصَلًا ۝ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ

نازل کی اور وہ لوگ جنکو ہم نے کتاب دی ہے اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ

مَنْزِلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِاَحْسَنِ حَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَسْتَرِيْنِ ۝

خدا کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہو پس تم ہرگز شک کرنے والوں میں گنہگار نہ ہونا



Handwritten marginal notes in Urdu script on the left side of the page, providing commentary on the verses.

Handwritten marginal notes in Urdu script at the bottom of the page, providing commentary on the verses.

مجموعہ کتب اسلامیہ

سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْرُقُونَ ۝ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْثَلًا

عقرب وہ اپنے کئے کی سزا پائیں گے اور اللہ کا جس (ذبح) پر نام نہیں

لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ وَإِنَّ

لیا گیا ہے اس میں سے مت کھاؤ اور یہ بیشک نافرمانی ہے اور شیاطین

الشَّيْطَانِ لِيُوْحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ

اپنے دوستوں کے قانون میں پھونکتے پھرتے ہیں تاکہ وہ تم سے لڑیں اور اگر

أَطَعْتُمْ هُمْ إِنَّكُمْ لَشُرُكُونَ ۝ أَوْ مِنْ كَانِ مَيْتًا

تم ان کی بات مان لو گے تو بیشک تم (بھی) مشرک ہو جاؤ گے کیا وہ جو مردہ تھا جسکو

فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ

ہم نے زندہ کیا اور چنے آسکو نور دیا کہ اُس کے ذریعہ سے لوگوں میں چلے پھرے

كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ

مثل اس شخص کے ہے جو اندھیر یوں میں ہو اور اُن سے نکل نہ سکے اسی طرح

زَيْنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا

کافروں کے اعمال زینت دئے گئے ہیں اور اسی طرح چنے ہر گناہ کو

فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرُ مَجْرِمِهَا لِيَسْكَرُوا فِيهَا وَمَا

میں اُس کے بڑے (بڑے) مجرموں کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ اُس میں چالیں چلیں حالانکہ جو چالیں

يَسْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ وَإِذَا جَاءَتْكُمْ

وہ چلتے ہیں اپنی ہی ذات کی خرابی کے لئے (چلتے ہیں) اور سمجھتے کچھ نہیں اور صوبت اُنکے پاس کوئی

آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِحَتَّىٰ نُؤْتِي مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُلُ اللَّهِ ۗ

نشانی آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُجِيبُ الَّذِينَ

اللہ اس محل سے خوب واقف ہے جہاں اپنی رسالت کو مقرر فرمائے عقرب جو لوگ گمناہ

Handwritten marginal notes at the top of the page, including phrases like 'وَلَا تَأْكُلُوا أَمْثَلًا' and 'سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْرُقُونَ'.

Handwritten marginal notes on the left side, including 'الانعام' and 'سَيَجْزُونَ'.

Handwritten marginal notes on the left side, including 'سَيَجْزُونَ' and 'وَلَا تَأْكُلُوا أَمْثَلًا'.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, including 'سَيَجْزُونَ' and 'وَلَا تَأْكُلُوا أَمْثَلًا'.

Handwritten notes at the top of the page, including the page number ۲۲۸ and the word 'ولوات' (Wulwat).

۲۲۸
ولوات

اجرموا اصغارا عند الله وعذاب شديد بما كانوا

کرتے ہیں انکو خدا کی طرف سے زنت پھینکی اور جو اس کے کہ وہ مکر کیا کرتے تھے انکو

يَمَكُرُونَ ○ فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره

تخت عذاب دیا جاوے گا جس کی نسبت اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت کرے تو اسکا سینہ اسلام کے

للاسلام ومن يرد ان يضلّه يجعل صدره

لئے کھول دیتا ہے اور جس کی نسبت یہ چاہتا ہے کہ اس سے توفیق ہدایت سلب کرے تو اس کے سینہ کو

ضيقا حرجا كما يصعد في السماء كذلك يجعل الله

تنگ اور ٹھوس کر دیتا ہے گویا وہ آسمان کو چڑھا چلا جاتا ہے اسی طرح ان لوگوں پر جو ایمان نہیں

الرجس على الذين لا يؤمنون ○ وهذا صراط

رکھتے ہیں اللہ جنابت کو سوار کر دیتا ہے اور یہ تمہارے رب کا راستہ

ربك مستقيما قد فصلنا الآيت لقوم يذكرون

سیدھا ہے نصیحت پانیزالے لوگوں کے لئے جنہے احکام کو کھول کر بیان کر دیا ہے

لهمدار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا

انکے رب کے پاس انکے لئے سلامتی کا مکان موجود ہے اور جو عمل وہ کرتے ہیں انکے بارے میں وہ انکا

يعملون ○ ويوم يحشرهم جميعا يمعشر الجن

عامی کار ہے اور جس دن ان سب کو جمع کریگا (پھر وہ یہ کہو گا) کہ اے گروہ جنات تم آدمیوں سے

قد استكثرتم من الاليس وقال اوليكم من الاليس

زیادہ بڑھ گئے تھے اور آدمیوں میں (جو) انکے طرفدار (ہیں وہ) عرض کریگے کہ اے

ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي

ہمارے پروردگار ہم میں بعض نے بعض کے ذریعے سے نفع پایا اور ہم اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے

اجلت لنا قال النار مثوكم خلدن فيها الا

لئے مقرر فرمائی تھی خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تمہارا ٹھکانا ہی اسی میں تم ہمیشہ رہو گے سوائے اسکے کہ

Extensive handwritten notes on the right side of the page, including the word 'مکرون' (Makron) and various religious and philosophical discussions.

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary on the verses.

انعام کا نام ہے اور انعام کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ انعام کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ انعام کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلٰی

وہ آیتوں میں ہے اور تم خدا کو عاجز نہ کہو۔ تم کہہ دو کہ اسے میری قوم تم اپنی بھلائی جو چاہے وہ

مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ اَعْمَلُ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۗ مَنْ تَكُوْنُ

کام کرنے رہو میں بھی (اپنی جگہ) عمل کرتا رہوں گا۔ تم کو معلوم ہو گا کہ آخرت کا گھر اسکے ہاتھ

لَهُ عَاقِبَةُ الدّٰرِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۗ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ

رہیگا۔ بیشک ظالم فلاح نہ پائیں گے اور ان کا فوج (خدا کی پیدا

مِمَّا ذَرٰءٌ مِّنْ اَحْرٰثٍ ۗ وَالْاَنْعَامُ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا

لی ہوئی ذراعت اور مویشی میں خدا کا حصہ تھا کیا اور یہ کہہ یا کہ یہ تو ہمارے گمان کے

لِلّٰهِ بِرَعْمِهِمْ ۗ وَهٰذَا الشُّرَكَآءُ مِمَّا كَانُ لَشُرَكَآئِهِمْ

بوتہ خدا کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شرکاؤں کا ہے اور جو ہمارے شرکاؤں کا ہے وہ تو اللہ کو نہیں

فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانُ لِلّٰهِ فِهٖوْا يَصِلُ اِلَى

پہنچتا اور جو اللہ کا ہے وہ ہمارے شرکاؤں کو

شُرَكَآئِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۗ وَكَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُفْرٰنِكُمْ

پہنچاتا (یہ) کیسے ہیروہ حکم لگاتے ہیں اور اسی طرح بہت سے مشرکین کی نظریں

مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلًا اَوْ لَادِهٖمْ شُرَكَآءُ وَهٖمْ لِيَدُوْهُم

انکے شرکاؤں نے انکی اپنی ادا کے قتل کو زینت دیدی ہے تاکہ انکو ہلاک کریں

وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنََهُمْ ۗ وَكُوشَاءُ اللّٰهِ مَا فَعَلُوْهُ

اور انکے دین کو اپنے دین سے لٹکتا کر دیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے

فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ۗ وَقَالُوْا هٰذِهِ اَنْعَامٌ وَّ

ہے تم انکو اور انکی افترا پر دامن کو چھوڑ دو اور انہوں نے اپنے گمان کو بوجہ یہ کہا کہ جویشی اور چھٹی

حَرْثٌ يَّجْرُ لَا يَطْعَمُ اِلَّا مَن نَّشَاءُ بِرَعْمِهِمْ

چھٹی ہے اسکو کوئی نہیں کھا سکتا لیکن جو ہم چاہیں اور کچھ وہ جو چاہے ہیں خلی ہوا کا

انعام کا نام ہے اور انعام کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ انعام کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ انعام کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔

کفر

انعام کا نام ہے اور انعام کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ انعام کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ انعام کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔

النَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

گمراہ کرے بیشک اللہ ظالموں کی رہبری نہیں فرماتا

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ

(اے رسول) کہہ دو کہ مجھ پر وحی آئی ہے میں تو اس میں کسی کھانے والے پر جو اشیاء مذکورہ

يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ

میں سے) کچھ کھانے کوئی چیز حرام نہیں بلکہ اس کے کہ مر رہا ہو یا اچھل کر نکلا ہو خون یا سوز

لَحْمِ خَيْزُرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فِسْقًا أَوْ هَلًا بِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

کا گوشت کہ یہ سب گندی چیزیں ہیں یا نافرمانی کا ذبیہ جس پر غیر خدا کا نام لیا گیا ہو

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ

پھر جو شخص اضطرار کی حالت میں ہو نہ بغاوت کرنے والا (جو) اور نہ حد سے گزرنے والا (اور وہ کچھ کھالے) تو بیشک رازگار

رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ

پر جسے والا اور رحمت کرنا لاہے۔ اور یہودیوں پر بھی ہر ناسن والا حرام کر دیا تھا

وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا

اور گائے اور بکری کی شہم سے ان پر ان دونوں کی چربی حرام کر دیں سوائے اس کے

مَا حَمَلَتْ ظُهْرُ رَهْمًا أَوْ أَلْبَانًا أَوْ مَا اخْتَلَطَ

جو ان کی پشت سے چھٹی ہوئی ہو یا آنٹوں پر بیٹی ہوئی یا جو ڈھون کے ساتھ

بَعْضُ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِغَيْرِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن

میں ہوئی ہو بیٹھے انکو انکی بغاوت کی سزا دی تھی اور ہم ضرور سچے ہیں پھر اگر وہ

كَذَّبُوا فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرِيدُ

تک جو جھٹلائیں تو تم کہہ دو کہ تمہارا پروردگار وسیع رحمت والا ہے اور اسکا عذاب

بِأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ

نافرمان لوگوں سے اٹھایا نہ جائے گا عقرب مشرک یہ کہیں گے کہ

Handwritten notes at the top of the page, including phrases like 'وَمَا كُنَّا بِمُحَرَّمِينَ' and 'وَمَا كُنَّا بِمُحَرَّمِينَ'.

Vertical handwritten notes on the left margin, including 'الانعام' and 'بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ'.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Handwritten notes at the bottom of the page, including 'وَمَا كُنَّا بِمُحَرَّمِينَ' and 'وَمَا كُنَّا بِمُحَرَّمِينَ'.

مَنْ اِمْلَاقٍ حُنْ نُرْزُقُكُمْ وَاَيَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا

کہ ہم تمکو اپنی ارزق دینگے اور اُنکو (بھی) اور بے حیائی کی باتوں کے

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ

پاس نہ جاؤ خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور کسی نفس کو جسکا قتل خدا نے

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

حرام کیا ہے تم قتل نہ کرو سوائے اسکو (وہ قتل) بالحق ہی ہو۔ یہ چیزیں ہیں جہاں سے تمکو حکم دیا ہے

تَعْقُلُونَ ۱۵ وَلَا تَقْرَبُوا اِمَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ

تا کہ تم سمجھ لو اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ سوائے اس طریقے کے جو

اِحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشْدَّاءُ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

بہتر ہو جب تک کہ وہ قوت نہ پکڑ لے جائے اور انسان کے ساتھ ناپ اور تول

بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا وَاَوْسَعَهَا وَاِذَا قُلْتُمْ

کو ہم کسی نفس کو اسکی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور جب تم کوئی بات کہو

فَاعْدُوا وَاُولُو كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَاَبْعَدُ لَكُمْ اَوْ فَوَاقِدِ

تو اس میں انصاف کرو گو شمار اقربا ت فار ہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو

ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۱۶ وَاَنْ هَذَا

انہی چیزوں کی اللہ نے تمکو وصیت کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور بیشک یہی

صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

میرا راستہ سیدھا ہے پس اسکا اتباع کرو اور مختلف راستوں پر نہ چلو

فَتَفَرِّقَ بَيْنَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

کو وہ تمکو اُنکے راستے سے ہٹا دینگے ان باتوں کا اُن سے تمکو حکم دیا ہے تاکہ تم

تَتَّقُونَ ۱۷ ثُمَّ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي

پر ہم نے تمکو پورا کیا پھر ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب عنایت کی جو نیکو کاروں پر اتمام نعمت

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses. The text is dense and covers the entire left margin.

Handwritten marginal notes in Urdu script at the bottom of the page, continuing the commentary on the verses.

رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ

آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں جس دن تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں

آیتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ

آجائیکے (سُن) کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جب تک کہ ایمان پہلے سے آیا ہو یا ایمان

مِنْ قَبْلِ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ اتَّقُوا

کی حالت میں تمہیں نہ کرے گا ہو تم کہدو کہ تم انتظار کرتے رہو

إِنَّمَا تُنْتَظِرُونَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا

ہم بھی منتظر ہیں بیشک لوگ جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی اور گروہ کر دہ

شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۗ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

پونگے ٹکڑے کسی معاملہ میں سرورگار زمین اُنکا فیصلہ خدا کے ہاتھ سے

ثُمَّ يَنْبِئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۗ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ

پھر وہ اُنکو اُنکے کرتوت سے آگاہ کر دے گا جو ایک نیکی لایینگے تو اُسکے

فَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَلِهَا ۗ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يَجْزِي

لئے اُسکا دس گنا ہے اور جو ایک بری لایینگا اُسکو مزاحمت اسی کی مقدار کے ہوائے

الْأَمْثَلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۗ قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ

دی جائیگی اور اُن پر زیادتی نہ کی جائیگی (اسے رسول) تم کہدو بیشک تمہیں میرے پروردگار

رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۗ دِينًا قِيَامًا لِّإِبْرَاهِيمَ

نے راہ راست کی ہدایت کی ہے (وہ) پانڈار مذہب راستی کی طرف مائل ابراہیم کی سنت

حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۗ قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ

(۴) اور وہ مشرکین سے نہ تھے تم کہدو کہ میری نماز اور میری

وَلَسْتُ وَحْيًا ۗ وَمَا آتَى اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۗ

عبادت اور میرا حیا اور میرا نما سب عالموں کے ہاتھ والے خدا کے واسطے ہے

عاشی میں جناب المہر قزلباشی نے متول بہ کہ حقیقت نے کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑا اس لئے کہ جو انسان کو باقی نہیں چھوڑتا اور وقتہ کرنا اور وقتہ کرنا بھی اس میں داخل ہیں اور اسی طرح...

بسم اللہ الرحمن الرحیم... (Vertical text on the left margin containing various religious and philosophical notes.)

وہی ہے جو خدا کے لئے کیا عطا ہوتا ہے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لئے اور تمہاری اولاد کے لئے...

لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ اَتَّبِعُوا مَا اُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

دلتنگ نہو (اسے بندو) جو کچھ تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے

وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝

اسکی پیروی کرو اور خدا کو چھوڑ کر اور یاروں کی پیروی نہ کرو تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو

وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا فَاَجَاءَهَا اَسْنَابُهَا وَتَاوَهُمْ

اور کتنی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں پس ہمارے عذاب آئے انکو رات آجیا تھا یادوں میں جبکہ

قَالُونَ ۝ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ اَسْنَانٌ اَلَا

وہ قیلولہ میں تھے پھر حقیقت اُنپر ہمارا عذاب آیا تو اُنکی دادیلا اسکے سوا کچھ بھی انہیں تھی کہ

اَنْ قَالُوا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ فَلَنَسْتَلِ الْذِّينَ ارْسَلْنَا

اسکے قائل ہو گئے کہ بیشک ہم ظالم تھے پس ہم اُنسے بھی عذر باز پرس کرینگے جنکی طرف اول

اِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَلِ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَلَنَقْصُصَ عَلَيْهِمْ عِلْمَهُمْ

بیچے گئے تھے اور سولوں کی بھی ضرور ہم باز پرس کریں گے اور ہم علم کے ساتھ اُنسے بیان کر دینگے (کیونکہ)

وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۝ فَمَنْ

ہم غائب تو تھے ہی نہیں اور اُس دن کی تول برقی ہے پس جسکی

ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ

نیکیاں بھاری ہو گئیں وہی تو کامیاب ہیں اور جسکی

خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ

نیکیاں ہلکی ہو گئیں وہ وہی ہیں جنہوں نے ہماری نشانیوں پر ظلم کر لیا

يَسَاءَ مَا كَانُوا يَأْتِيْنَ اِذْ يَظْلِمُونَ ۝ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي

سبب اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور بیشک جتنے تمکو زمین میں

الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا

تجاو دیا اور اُس میں تمہارے واسطے سامان زندگی مقرر کیا تم بہت کم

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the word 'تفسیر' (Tafsir) and various explanatory text.

Handwritten marginal notes in Urdu script at the bottom of the page, providing further commentary on the verses.

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفٰسِقِيْنَ
مِنْهَا مَذْمُومٌ مَّا مَدَّ حَوْرًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَلُنَّ

ذلیل و خوار ہو کر نکل جا (اور) ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں (بھی)

جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ وَيَا دِمْرَاسُكُنْ أَنْتَ وَ

تم سب سے ضرور جہنم بھر دوں گا اور اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت

زَوْجِكَ الْجَنَّةَ فَمَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا

میں بسو اور جہان جہان اسے تمہارا جی چاہے کھاؤ اور اس درخت کے پاس

هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۝ فَوَسَّوْا

نہ جانا ورنہ تم دونو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے پھر شیطان نے

لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وَّرٰى عَنْهُمَا مِنْ

انکے دل میں دوسوہ ڈالا تاکہ انکے ستر جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے وہ ظاہر کر دے

سَوَاتِيهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ

اور یہ کہا کہ تمہارے مالک نے تمکو اس درخت سے روکا نہیں ہے مگر (صرف) اس لشکر

لَا اِنَّ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ۝

کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کے رہنے والے نہو جاؤ

وَقَاَسَمَهُمَا اِنَّيْٓ اَنَا الْبَرُّ الصَّحِيْحُ ۝ فَدَلَّهُمَا

اور ان دونوں کے سامنے تم کھائی کہ میں ضرور تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں اور اس طرح دھوکے سے

يَغْرُوْرٰۙ فَلَمَّا ذَاَقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِيهُمَا

آنکھوں ڈانوا ڈول کر دیا پھر جیتے ہی ان دونوں نے اس درخت (کے پھل) کو کھجھا انکے ستر کھل گئے

وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۙ وَ

اور وہ جنت کے پتے (جوڑے جوڑے کے) اپنے ستر چھپانے لگے اور

نَادٰۙ لَهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ اَنْهٰكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ

انکے پروردگار نے پکار کر ان سے کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا

ذلیل

مذکورہ

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses. The text is dense and covers the entire left margin.

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses. The text is dense and covers the entire bottom margin.

لَا تَرَوْهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ

آنکونہیں دیکھتے (مگر) جنے شیاطین کو انہی کا ہمدم مقرر کیا ہے جو

لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا

ایمان نہیں رکھتے اور جسوقت وہ کوئی بدی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے

عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرًا نَبِيهَا قُلْ إِنَّا لِلَّهِ

باپ دادا کو ہی کہنے یا پاسے اور اللہ نے بھی انکو اسی کا حکم دیا ہے تم یہ کہو کہ اللہ یقیناً

لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۗ اتَّقُوا لَنْ عَلَى اللَّهِ مَا

بیجانی کی باتوں کا حکم نہیں دیتا کیا تم اللہ کے برخلاف وہ کچھ کہتے ہو جو

لَا تَعْلَمُونَ ۚ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۗ وَأَقِيمُوا

تم نہیں جانتے تم کہو کہ میرے پروردگار نے تو عدالت کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز

وَجْوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ

کے وقت (مہل کی طرف) اپنے رخ کرو اور دین کو اسی کے لئے خالص سمجھا اس

لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۚ فَرِيقًا

دعا مانگو بیسائے اول میں نکو پیدا کیا تھا ویسے ہی اُسکی صورت میں لٹ کر جاؤ گے ایک گروہ کو تو

هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۗ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا

اُسے ہدایت کی اور ایک گروہ اس حال میں کہ انہیں گمراہی ثابت ہو گئی بیشک انہوں نے خدا کو

الشَّيْطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ

چھوڑ کر شیاطین کو اپنا یار بنالیا ہے اور گمان یہ کرتے ہیں کہ

أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ۚ يُبْنِي أَدْمَخَذٌ وَارِيزَتَكُمْ

ہم ہدایت یافتہ ہیں اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت زینت کرو

عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ

اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو

Handwritten marginal notes at the top of the page, including phrases like 'فاحشہ' and 'تقوا'.

Vertical handwritten marginal notes on the left side of the page, providing commentary on the verses.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, including phrases like 'تقوا' and 'سرفوا'.

بیشک خدا تعالیٰ فضول خرچی کرے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تم کہدو کہ خدا کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے اور رزق کی پاک چیزوں کو حرام کئے کیا ہے تم کہدو کہ جو لوگ زینت گانی دنیا میں ایمان لائے ہیں قیامت کے دن یہ نعمتیں خاص طور پر انہی کے لئے ہونگی۔

الاعراف

۲۴۴

و لو انما

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ

الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ

لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ

الْقِيَامَةِ ۖ كَذَلِكَ نَفِصِلُ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وَمَا بَطَّنَ ۖ وَأَلْتَمَ ۖ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا

بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا

لَا تَعْلَمُونَ ۖ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ

أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۖ

يَبْنِي أَدَمًا مَّا يَأْتِيكُمْ رَسُولٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ

عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَسِنِ اتَّقِي وَأَصْلِحْ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ

وَلَا يَحْزَنُونَ ۖ

وَلَا يَحْزَنُونَ ۖ

بیشک خدا تعالیٰ فضول خرچی کرے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تم کہدو کہ خدا کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے اور رزق کی پاک چیزوں کو حرام کئے کیا ہے تم کہدو کہ جو لوگ زینت گانی دنیا میں ایمان لائے ہیں قیامت کے دن یہ نعمتیں خاص طور پر انہی کے لئے ہونگی۔

بیشک خدا تعالیٰ فضول خرچی کرے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تم کہدو کہ خدا کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے اور رزق کی پاک چیزوں کو حرام کئے کیا ہے تم کہدو کہ جو لوگ زینت گانی دنیا میں ایمان لائے ہیں قیامت کے دن یہ نعمتیں خاص طور پر انہی کے لئے ہونگی۔

بیشک خدا تعالیٰ فضول خرچی کرے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تم کہدو کہ خدا کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے اور رزق کی پاک چیزوں کو حرام کئے کیا ہے تم کہدو کہ جو لوگ زینت گانی دنیا میں ایمان لائے ہیں قیامت کے دن یہ نعمتیں خاص طور پر انہی کے لئے ہونگی۔

هَدَيْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَيْنَا

ہم کو اس جگہ تک پہنچایا اور اگر اللہ ہمارا رہبر نہ ہوتا تو ہم راہ نہ پاتے

اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ

بیشک ہمارے پروردگار کے برحق رسول ہمارے پاس آئے اور اسی وقت انکو آواز

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

وہی جاییگی کہ جو ان اعمال کے جو تم کیا کرتے تھے اس جنت کے تم وارث کئے گئے اور

نَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا

جنت والے جہنم والوں سے پکار کر پوچھیں گے کہ ہمارے پروردگار نے مجھ کو وعدہ

مَا وَعَدَنَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ ۙ

کیا تھا جنے تو اسے ٹھیک پایا پس تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا آیا تمہیں آسے

حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَاذَنْ مَوْذِنٍ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ

ٹھیک پایا وہ جواب دینگے ہاں پھر ایک آواز دینے والا انکے مابین آواز دیکھا کہ ظالموں پر

عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

خدا کی لعنت ہو جو راہ خدا سے روکتے تھے

وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ ۝

اور اُس کی کمی کے خواستگار تھے اور وہی آخرت سے منکر تھے اور ان دونوں کو وہیں

حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا

مابین آڑھٹی اور اُسکی اجڑیوں پر ایسے لوگ ہونگے جو ہر ایک کو اُنکی پیشانیوں سے پہچانتے

بِسِيمَتِهِمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ

ہونگے اور وہ جنت والوں کو آواز دیکر یہ کہیں گے کہ تم پر سلام ہو

لَمَّا دَخَلُوا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۝ وَإِذَا صُرِفَتْ

وہ خود اچھی اس میں نہ پہنچے ہونگے حالانکہ راغب ہونگے اور جس وقت اُنکی نظر

ہم کو اس جگہ تک پہنچایا اور اگر اللہ ہمارا رہبر نہ ہوتا تو ہم راہ نہ پاتے

ہم کو اس جگہ تک پہنچایا اور اگر اللہ ہمارا رہبر نہ ہوتا تو ہم راہ نہ پاتے

وہی جاییگی کہ جو ان اعمال کے جو تم کیا کرتے تھے اس جنت کے تم وارث کئے گئے اور

ہم کو اس جگہ تک پہنچایا اور اگر اللہ ہمارا رہبر نہ ہوتا تو ہم راہ نہ پاتے

بصارتهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف عالم لوكون کے ساتھ نہ رکھو اور مالکان اعوان (مرداران کفار میں سے) بعض لوگوں کو بجا لا یغرفونہم بسیمہم قالوا اما اغنی عنکم بچار نیچے جنکو وہ انکی پیشانیوں سے بچاتے ہوئے اور یہ کہتے کہ نہ تمہارے جتنے کچھ کام دیا جمعکم وماکنتم تستکبرون اہو لاء الذین اور نہ ان جنوں نے خیر تم گھنڈ کیا کرتے تھے ابھر نکارشون کی طرف اشارہ کر کے ان کلمہ پڑھتے اقسمتہ لاینالہم اللہ برحمۃ اذخلوا الجنة کر نیچے کہا آیا ہی ہیں وہ جلی نسبت تم گھم گھم کرتے تھے کہ اپنے استہمت نہ کر گیارہ ان شون کی طرف توجہ کرنا چاہیے لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون ونادى جنبت میں جاؤ تم کوئی خوف نہیں ہو اور نہ تم رنجیدہ ہو گے اور جہنم والے اصحاب النار اصحاب الجنة ان اقبضوا علیکم من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما تمکو عنایت کی ہیں ہمیں بھی اذالو (وہ) جواب دینے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان علی الکفرین الذین اتخذوا دینہم لہواک کافروں پر حرام کر دی ہیں جنوں نے اس کے دین کو کھیل کو رہ بنایا تھا لعباوغرثہم الحیۃ الدنیاء فالیوم ننسہم اور زندگانی دنیائے انکو دھوکا دیا تھا اور شاہد باری ہے کہ اس آج کے دن کانسوا القاء یومہم ہذا وما کانوا یابیتنا ہم (بھی) انکو ایسا ہی جھلا دینے جیسا کہ وہ اس دن کے انکو بھولے ہوئے تھے اور جیسا کہ ہماری نشانیوں

الاعراف

۲۳۸

ولوات

ابصارہم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا

مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف

رجا لا یغرفونہم بسیمہم قالوا اما اغنی عنکم

جمعکم وماکنتم تستکبرون اہو لاء الذین

اقسمتہ لاینالہم اللہ برحمۃ اذخلوا الجنة

لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون ونادى

اصحاب النار اصحاب الجنة ان اقبضوا علیکم

من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما

علی الکفرین الذین اتخذوا دینہم لہواک

لعبا وغرثہم الحیۃ الدنیاء فالیوم ننسہم

کانسوا القاء یومہم ہذا وما کانوا یابیتنا

ہم (بھی) انکو ایسا ہی جھلا دینے جیسا کہ وہ اس دن کے انکو بھولے ہوئے تھے اور جیسا کہ ہماری نشانیوں

ہم (بھی) انکو ایسا ہی جھلا دینے جیسا کہ وہ اس دن کے انکو بھولے ہوئے تھے اور جیسا کہ ہماری نشانیوں

ہم (بھی) انکو ایسا ہی جھلا دینے جیسا کہ وہ اس دن کے انکو بھولے ہوئے تھے اور جیسا کہ ہماری نشانیوں

ہم (بھی) انکو ایسا ہی جھلا دینے جیسا کہ وہ اس دن کے انکو بھولے ہوئے تھے اور جیسا کہ ہماری نشانیوں

ہم (بھی) انکو ایسا ہی جھلا دینے جیسا کہ وہ اس دن کے انکو بھولے ہوئے تھے اور جیسا کہ ہماری نشانیوں

بصارتہم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف عالم لوكون کے ساتھ نہ رکھو اور مالکان اعوان (مرداران کفار میں سے) بعض لوگوں کو بجا لا یغرفونہم بسیمہم قالوا اما اغنی عنکم بچار نیچے جنکو وہ انکی پیشانیوں سے بچاتے ہوئے اور یہ کہتے کہ نہ تمہارے جتنے کچھ کام دیا جمعکم وماکنتم تستکبرون اہو لاء الذین اور نہ ان جنوں نے خیر تم گھنڈ کیا کرتے تھے ابھر نکارشون کی طرف اشارہ کر کے ان کلمہ پڑھتے اقسمتہ لاینالہم اللہ برحمۃ اذخلوا الجنة کر نیچے کہا آیا ہی ہیں وہ جلی نسبت تم گھم گھم کرتے تھے کہ اپنے استہمت نہ کر گیارہ ان شون کی طرف توجہ کرنا چاہیے لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون ونادى جنبت میں جاؤ تم کوئی خوف نہیں ہو اور نہ تم رنجیدہ ہو گے اور جہنم والے اصحاب النار اصحاب الجنة ان اقبضوا علیکم من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما تمکو عنایت کی ہیں ہمیں بھی اذالو (وہ) جواب دینے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان علی الکفرین الذین اتخذوا دینہم لہواک کافروں پر حرام کر دی ہیں جنوں نے اس کے دین کو کھیل کو رہ بنایا تھا لعبا وغرثہم الحیۃ الدنیاء فالیوم ننسہم اور زندگانی دنیائے انکو دھوکا دیا تھا اور شاہد باری ہے کہ اس آج کے دن کانسوا القاء یومہم ہذا وما کانوا یابیتنا ہم (بھی) انکو ایسا ہی جھلا دینے جیسا کہ وہ اس دن کے انکو بھولے ہوئے تھے اور جیسا کہ ہماری نشانیوں

بصارتہم

ہم (بھی) انکو ایسا ہی جھلا دینے جیسا کہ وہ اس دن کے انکو بھولے ہوئے تھے اور جیسا کہ ہماری نشانیوں

بِحَدَوْنٍ ۝ وَقَدْ جِئْتَهُمْ بَكْتِبٍ فَصَلَّنَاهُ عَلٰى عِلْمٍ

انکار کیا کرتے تھے اور بیشک ہے انکو ایک ایسی کتاب دی ہے جسکی تفسیر ہے جانج کر کی ہو

هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ هَلْ يَنْظُرُونَ

درآخالیکہ وہ ایمان لائیںوالے لوگوں کے لئے ہدایت و رحمت ہے کیا وہ صرف اسکے انجام کے

الَا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ كَسُوهٗ

تنتظر ہیں؟ جس دن اسکا انجام ظاہر ہوگا تو جو اسکو پہلے سے بھولے ہوئے تھے

مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ بِبَيِّنَاتٍ فَهَلْ لَنَا

وہ یہ کہنے کہ بیشک ہمارے پروردگار کے رسول حق لیکر آئے تھے بجز اب ہمارے کبھی کوئی

مِنْ شُفَعَاءٍ فَيَشْفَعُوا لَنَا اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي

شفاعت کر نیوالے ہیں جو ہماری شفاعت کریں یا ہم واپس بھیج دئے جائیں کہ جیسے عمل دہیا ہم کیا کرتے

كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَيْرًا وَّاَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا

تھے انکے بظلمات (نیک) عمل کریں بیشک انہوں نے اپنے آپ کو بظلمتوں میں پھنسا یا اور جو ان پر ازیاں وہ

كَانُوا يُفْتَرُونَ ۝ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

کیا کرتے تھے وہ سب اُنکے ہاتھ سے نکل گئیں۔ بیشک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور

وَالْاَرْضِ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۝

زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر (اسکا حکم) غالب آیا (ہی)

يُعْشٰى الْبَلَّ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَّ الشَّمْسُ وَا

رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے جو تیزی سے اُسکے پیچھے جلا آتا ہے اور اسی نے سورج اور

القَمَرُ وَاَلنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهِ ۝ اَلَا لَهٗ الْخَلْقُ

جاندار اور ستاروں کو اس شان سے پیدا کیا۔ اُسکے حکم کے تابع ہیں آگاہ ہو کہ بناوا اور حکم دینا

وَالْاَمْرُ لِلّٰهِ تَبٰرَكَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَدْعُوْا رَبَّكُمْ

اسی کا نام ہے اللہ جل جلالہ کا یہودیش کرنا اللہ صاحب برکت ہے تم اپنے پروردگار سے کہو اور اگر اور

بہت سی حواشی اور تفسیریں اس صفحہ کے بائیں جانب لکھی گئی ہیں۔ یہ حواشی مختلف مقامات پر لکھی گئی ہیں اور بعض جگہوں پر کتبہ نما لکھی گئی ہیں۔ یہ حواشی اس کتاب کی تفسیر اور توضیح کے لیے لکھی گئی ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

اور کوئی معبود نہیں ہے میں فرود تمہارے لئے بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ

انہی قوم کے شرکانے یہ کہہ دیا کہ ہم تو آپ ہی کو گمراہی میں دیکھتے ہیں

قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ

حضرت نوح نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھ میں گمراہی ڈرتہ بھری نہیں ہے بلکہ میں تو پروردگار

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ اٰبَلغكم رسالت ربي و انصح

کی طرف سے پیغام مبر ہوں تمکو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری ہی خیر خواہی

لكم و اعلم من الله ما لا تعلمون ۝ او عجبتم

کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس سے عجب ہے

ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم

کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تمہیں میں سے ایک مرد پر نازل ہوئی

ليبيناركم وليتقوا و لعلمكم ترحمون ۝

تا کہ وہ تمکو ڈراتے اور تم متقی ہو جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے

فكذبوه فاجبينه و الذين معه في الفلك و

پس انہوں نے انکو جھٹلایا اور جسے خود انکو اور کشتی میں جانے کے ساتھ لے کر نجات دیدی اور

اعرفنا الذين كذبوا بايتنا و انهم كانوا قوما

جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے انکو پہنچنوق کر دیا بیشک وہ لوگ کوربا بن

عمن ۝ و الى عاد اخاهم هو دا و قال يقوم

تھے اور عاد کی طرف تھے انہیں کے ہم قوم ہود کو بھیجا انہوں نے کہا کہ اے میری

اعبد و الله ما لكم من اله غيرة افلا تتقون

اللہ کی عبادت کرو کہ اے کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے کیا تم (عذاب خدا سے) نہیں ڈرتے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including the word 'بسم' (Bismillah) and various religious and historical commentary.

اَتَجَادُ لَوْ نَبِيٌّ فِي سَمَاءٍ سَمِيئَةٍ مَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ

کیا تم مجھے ایسی چیزوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جنکو سننے اور تمھارے باپ دادا نے خود سے فراد کیا

مَا نَزَّلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ فَاَنْتُمْ وَالَّذِي مَعَكُمْ

اور اس آیت کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں کی لہذا تم (عذاب کے) منتظر ہو میں بھی تمھارے

مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝ فَالْحٰجِبَةُ وَالَّذِينَ مَعَهَا بِرَحْمَةٍ

ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں پس (خود) انکو اور جو ان کے ساتھ تھے انکو اپنی رحمت سے نجات دی

مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا

اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور جو من نہ تھے

كَانُوا اَمْوٰمِئِينَ ۝ وَالِى شَمُوذًا خَاهُمْ صَلْحٰمٌ

انکی ہرنس قطع کردی اور قوم شمود کی طرف چنے انکے بھائی صلح کو بھیجا تھا

قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۝

انہوں نے یہ کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جبکہ سوا تمھارا کوئی سہوہ نہیں ہے

قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نٰقَةُ اللّٰهِ

تمھارے پروردگار کی طرف سے تمھارے پاس کھلا سچوہ آیا ہے یہ اللہ کی اونٹنی تمھارے

لَكُمْ اٰيَةٌ فَذُرُّوْهَا تَاْكُلُ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ وَ لَا

لئے ایک نشانی ہے اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے بڑی

تَمْسُوْهَا يَسُوْءٌ فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

طرح نہ چھو نا (یعنی تکلیف نہ پہنچانا) ورنہ تمکو دردناک عذاب آلیگ

وَ اذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاۗءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ ۝

اور اسکو یاد رکھو کہ قوم عاد کے بعد خدا نے تمکو مالک بنایا ہے اور تمکو

بَعَاثَكُمْ فِي الْاَرْضِ لِتَخْذُوْنَ مِنْۢهَا قُصُوْرًا

اس زمین میں آباد کیا ہے کہ تم زمینوں میں تم محل بناتے ہو

Handwritten notes at the top of the page, including the title 'دلو انشا' and the page number '۲۵۳'.

Vertical handwritten notes on the left margin, providing commentary on the verses.

Handwritten note 'فصل دوم' (Chapter 2) written vertically.

Handwritten note 'نزل' (Descent) written diagonally.

Handwritten notes at the bottom of the page, including the title 'اصناف' and the page number '۱۲'.

لَا يَحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ۝ وَ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

تم نصیحت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے اور ہننے لوٹ کو بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ

اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد

کیا تم ایسی ہدی کرتے ہو کہ ویسی ہدی تمام عالم میں کسی نے

من العلمین ۝ انکم لتأتون الرجال شهوة

نہ کی بیشک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ

من دون النساء بل انتم قوم مسرفون ۝

شہوت رانی کرتے ہو تم ضرور حد سے گز جانے والے لوگوں میں سے ہو

وما كان جواب قومك الا ان قالوا اخرجوهم

اور انہی قوم کا کوئی جواب نہ تھا سوائے اسکے کہ یہ کہنے لگے کہ انکو اپنے گاؤں

من قريتكم انهم اناس يتطهرون ۝ فاجابه

سے نکال دو اس لئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاک بنتے ہیں پس ہننے لوٹ کو

واھله الا امراته زكاته من الغیرین ۝ و

اور انکے بال بچوں کو نجات دی سوائے انکی زوجہ کے کہ وہ چھوڑ چکا نیوالوں میں تھی اور

امطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة

آہر ہننے پتھروں کا ہینہ برسا یا پس غور کرو کہ جرموں کا انجام

الجرمین ۝ والی مدین اخاهم شعيبا قال

کیا ہوا اور مدین میں ہننے انکے بھائی شعیب کو بھیجا انہوں نے کہا

يقوم عبد الله ما لكم من الله غيرة قد

کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جسکے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تمہارے

جاءكم بيعة من ربكم فاقوال الكيل

رہب کے پاس سے تمہارے پاس رکھی ہوئیل آچکی ہے تو اب پیمانہ اور ترازو

لفظ کا قرینہ ہے... ولواتنا... الاعراف... لایحبون النصیحین... ولو کانوا یفقهون... اتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد... من العلمین... انکم لتأتون الرجال شهوة... من دون النساء بل انتم قوم مسرفون... وما کان جواب قومک الا ان قالوا اخرجوهم... من قریتکم انہم اناس یتطہرون... فاجابہ... واھلہ الا امراتہ زکاتہ من الغیرین... و امطرنا علیہم مطرا فانظر کیف کان عاقبۃ الجرمین... والی مدین اخاہم شعیباً قال... یقوم عبد اللہ ما لکم من اللہ غیرۃ قد جاءکم بیعۃ من ربکم فاقوال الکیل

